

تین بنیادی باتیں
اور ان کے دلائل

تالیف:

شیخ الاسلام

محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ

ترجمہ



رواد الترجمة

تین بنیادی باتیں
اور ان کے دلائل

تالیف:

شیخ الاسلام

محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ

ترجمہ



رواد الترجمة



دار الإسلام جمعية الربوة رواد الترجمة

- قامت جمعية الدعوة والإرشاد بالربوة بمراجعة وتصميم هذا الإصدار.
- تتيح الجمعية طباعة الإصدار ونشره بأي وسيلة مع الالتزام بالإشارة إلى المصدر وعدم التعمير في النص.
- في حالة الطباعة يجب الالتزام بمعايير الجودة التي اعتمدها الجمعية.

 Telephone: +966114454900

 Fax: +966114970126

 P.O.BOX: 29465

 RIYADH: 11557

 ceo@rabwah.sa

 www.islamhouse.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



مقدمہ ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما

بعد:-

ایک مسلمان کی سب سے زیادہ توجہ عقیدے سے تعلق رکھنے والے امور اور عبادت کے اصول و ضوابط کو سمجھنے میں صرف ہونی چاہیے۔ کیوں کہ اعمال کی قبولیت اور ان کا بندے کے حق میں نفع بخش ہونے کا دار و مدار عقیدے کے آلائشوں سے پاک ہونے اور اتباع کتاب و سنت پر ہے۔

اور اس امت کے ساتھ اللہ کا یہ لطف و کرم رہا ہے کہ اس نے اس کے لئے ایسے ہدایت کی راہ دکھانے والے اور ظلمات کو مٹانے والے امام میسر کئے، جنہوں نے راستے روشن کیے اور ہر چھوٹے بڑے معاملے کے بارے میں بتلایا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، نیز کیا مفید ہے اور کیا مضر۔ ایسے تمام لوگوں کو اللہ اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے بہترین بدلہ عطا کرے۔

انہی جلیل القدر اماموں میں سے ایک عظیم اور مشہور ترین امام، شیخ الاسلام اور قدوہ انام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ انہیں بھرپور صلہ اور ثواب عطا کرے اور بنا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب کرے۔ انہوں نے حق کو مدلل انداز میں بیان کرنے کی قابل قدر خدمت انجام دی اور اس سلسلے میں اپنے قلم، زبان اور ہتھیار سے جہاد کیا۔ نتیجے کے طور پر اللہ نے ان کے ذریعے بے شمار لوگوں کو کفر اور جہالتوں کی تاریکیوں سے نکال کر علم اور ایمان کی روشنی میں پہنچایا۔

یہ کتاب، جو ہمارے سامنے ہے، اسی جلیل القدر امام کے تین رسالوں ('تین بنیادی باتیں اور ان کے دلائل' - نماز کی شرطیں، واجبات اور ارکان - 'چار قواعد') کا مجموعہ ہے۔

عقیدہ اور عبادت کے اصول و ضوابط کی توضیح اور تشریح پر مشتمل ان کے یہ رسالے، ان کے اہم اور جامع ترین رسالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر انہوں نے ان تمام دینی باتوں کو یک جا کر دیا ہے، جن کا جاننا اور جن

پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ان لوگوں کے شبہات سے بھی آگاہ کر دیا ہے، جو لوگوں کو شرک کی جانب بلاتے ہیں اور اس بھرم میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا شریک ٹھہرانے کا دائرہ ربوبیت میں شریک ٹھہرانے کی حد تک محدود ہے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ان کی اس غلط بیانی کی نشان دہی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے۔

آپ نے یہ رسالے عام لوگوں کے لیے لکھے ہیں اور اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اسلوب بیان آسان رہے اور اختصار کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ چنانچہ بڑے ہی خوب صورت اور مفید ترین رسالے سامنے آئے، جو چھوٹوں اور بڑوں سب کے لیے یکساں مفید ہیں اور اپنے موضوع و مضمومات کی اہمیت کے پیش نظر بڑی خیر و برکت کے حامل ہیں۔

وزارت برائے اسلامی امور، اوقاف اور دعوت و ارشاد کے شعبہ طباعت و نشر نے، ان رسائل کے عظیم فائدے کے مد نظر، جو ان کے آسان اسلوب بیان اور موضوع و مواد کی قدر و قیمت میں پنہاں ہے، انہیں خاص توجہ کا مستحق گردانا اور ان کی اشاعت کو ضروری سمجھا، تاکہ اللہ کے دین کی دعوت کا کام حکمت کے ساتھ اور مناسب و موزوں طریقے سے انجام پاسکے، نیز اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا فریضہ بھی انجام پاسکے۔

ہماری دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کرے نیز اپنی کتاب اور رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور بہت قریب ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔

معاون سکریٹری (شعبہ طباعت و نشر) برائے وزارت اسلامی امور، اوقاف اور دعوت و ارشاد

ڈاکٹر عبداللہ بن احمد الزید

◆ وہ باتیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ بات اچھی طرح جان لیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ کہ ہمارے لیے چار مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے:

پہلا مسئلہ: اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین یعنی اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا۔

دوسرا مسئلہ: حاصل کردہ علم پر عمل پیرا ہونا۔

تیسرا مسئلہ: علم و عمل کی طرف لوگوں کو بلانا۔

چوتھا مسئلہ: علم و عمل اور ان کی طرف دعوت دینے کی راہ میں درپیش پریشانیوں پر صبر کرنا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ زمانے کی قسم! بے شک انسان سرتاسر نقصان میں ہے۔ سوائے ان لوگوں کے، جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور (جنھوں نے) آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی﴾ (1)۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: «اگر اللہ اپنی مخلوق پر بطور حجت صرف اسی ایک سورت کو نازل فرماتا، تو یہ کافی ہوتی۔»

اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا (جلد 1 صفحہ 45):

"اس بات کا بیان کہ علم کی ضرورت قول و عمل سے پہلے ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿سو (اے نبی!) آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں۔﴾ (2) یہاں اللہ نے قول و عمل سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے۔"

(1) سورہ العصر آیت: 1-3

(2) سورہ محمد آیت: 19۔

آپ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر تین مسائل کی جانکاری حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔

پہلا مسئلہ: اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور پھر یوں ہی بے کار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا۔ اب جو اس رسول کی اطاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اسکی نافرمانی کرے گا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس کا ثبوت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ﴿بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، پس ہم نے اسے سخت (وبال کی) پکڑ میں پکڑ لیا۔﴾⁽¹⁾ سورہ المزل آیت: 15-16

دوسرا مسئلہ: اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو اس کا ساجھی ٹھہرایا جائے۔ چاہے وہ اللہ کا کوئی قریب ترین فرشتہ یا اس کا بھیجا ہوا نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔﴾⁽²⁾ سورہ الجن آیت: 18

تیسرا مسئلہ: جس نے رسول کی اطاعت و فرماں برداری کی اور اللہ کی وحدانیت و یکتائی کو تسلیم کیا، اس کے لیے یہ ہر گز جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے ولاکانا رکھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں؛ خواہ وہ کتنے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہر گز نہ پائیں گے۔ گو وہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی یا ان کے کنبہ (قبیلے) کے (عزیز) ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی طرف سے بھیجی ہوئی وحی اور الہی نصرت و ربانی احسان سے کی ہے اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوشک ہیں۔ یہ الہی لشکر ہے۔ آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔﴾⁽³⁾ سورہ المجادلہ آیت: 22

(1) سورہ المزل آیت: 15-16

(2) سورہ الجن آیت: 18

(3) سورہ المجادلہ آیت: 22

◆ حنیفیت یعنی ملت ابراہیمی سے مراد محض ایک اللہ کی عبادت ہے۔

آپ یہ بات بھی بخوبی سمجھ لیں۔ اللہ اپنی طاعت و بندگی کی طرف آپ کی رہ نمائی کرے۔ کہ حنیفیت یعنی ملت ابراہیمی سے مراد یکسو ہو کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اسی کا حکم اللہ نے تمام لوگوں کو دیا ہے اور اسی کے لیے انھیں پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اور میں نے جن و انس کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔﴾⁽¹⁾ «يَعْبُدُون» کے معنی ہیں: میری توحید کا اقرار کریں۔

اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں سب سے بڑی اور اہم چیز 'توحید' ہے، جس کے معنی ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔

اسی طرح اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان میں سب سے بڑی اور اہم چیز 'اشْرک' ہے، جس کے معنی ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔﴾⁽²⁾

اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی تین بنیادی باتیں ہیں، جن کی جانکاری رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے؟

تو کہہ دیجیے: بندے کا اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور پہچاننا۔

پھر: اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے؟

تو کہہ دیجیے کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے اپنے فضل و کرم سے میری اور تمام جہانوں کی پرورش و پرداخت کی اور سب کے لئے ضرورت کی ساری چیزیں مہیا کیں۔ وہی میرا معبود ہے، اس کے سوا میرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔﴾⁽³⁾ واضح ہو کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز 'عالم' میں داخل ہے اور میں بھی اسی 'عالم' کا ایک حصہ ہوں۔

(1) سورہ الذاریات آیت: 56۔

(2) سورہ النساء آیت: 36۔

(3) سورہ الفاتحہ آیت: 2۔

◆ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے رب کو کس چیز کے ذریعے پہچانا؟

تو کہہ دیجیے کہ اس کی نشانیوں اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے۔ اس کی نشانیوں میں سے رات و دن اور، چاند و سورج ہیں، جب کہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کے ساتھ ساتھ ان دونوں کے اندر اور ان کے بیچ کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اور دن رات اور سورج چاند بھی اسی کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے۔﴾ (1) سورہ فصلت آیت: 37۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: ﴿بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے چھپا دیتا ہے کہ رات دن کو جلدی سے آلیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا، ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ، جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔﴾ (2) سورہ الاعراف آیت: 54۔

رب سے مراد معبود ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار! باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔﴾ (3) سورہ البقرہ آیت: 21-22۔

ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، وہی عبادت کا حق دار ہے۔

(1) سورہ فصلت آیت: 37۔

(2) سورہ الاعراف آیت: 54۔

(3) سورہ البقرہ آیت: 21-22۔

◆ عبادت، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے اقسام

عبادت، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی اقسام، جیسے اسلام، ایمان، احسان اور ایسے ہی دعا، خوف، رجا، توکل، رغبت، رہبت، خشوع، خشیت، انابت (رجوع)، استعانہ (مدد طلبی)، استعاذہ (پناہ طلبی)، استغاثہ، ذبح و قربانی اور نذر و منت اور ان کے علاوہ دیگر ساری عبادتیں، یہ سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہئیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اور مسجدیں اللہ کے لیں ہیں۔ پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔﴾ (1) سورہ الحج آیت: 18

چنانچہ جس نے ان میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کی، وہ مشرک و کافر ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔﴾ (2)

اور حدیث پاک میں ہے: ﴿دعا عبادت کا مغز ہے۔﴾ (3) اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں، وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔﴾ (4) سورہ غافر آیت: 60۔

خوف کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو، اگر تم مؤمن ہو۔﴾ (5) سورہ آل عمران آیت: 175۔

امید ورجا کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿تو جسے بھی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔﴾ (6)

(1) سورہ الحج آیت: 18۔

(2) سورہ المؤمنون آیت: 117۔

(3) سنن ترمذی، الدعوات (3371)۔

(4) سورہ غافر آیت: 60۔

(5) سورہ آل عمران آیت: 175۔

(6) سورہ الکہف آیت: 110۔

توکل کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿اور تم اگر مؤمن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔﴾ (1) سورہ المائدہ آیت: 23۔ ﴿جو شخص اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اسے کافی ہوگا۔﴾ (2)۔

رغبت و رہبت اور خشوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔﴾ (3)

خشیت کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿خبردار! تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔﴾ (4) سورہ المائدہ آیت: 3۔

انابت اور رجوع کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿تم (سب) اپنے رب کی طرف لوٹ پڑو اور اس کی حکم برداری کیسے جاؤ۔﴾ (5) سورہ الزمر آیت: 54۔

استعانت (مدد طلبی) کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔﴾ (6) سورہ الفاتحہ آیت: 5۔

اور حدیث پاک میں ہے: "جب تم مدد طلب کرو، تو اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرو۔" (7)

استعاذہ (پناہ طلبی) کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿آپ کہہ دیجیے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ لوگوں کے مالک کی پناہ میں۔﴾ (8)۔

(1) سورہ المائدہ آیت: 23۔

(2) سورہ الطلاق آیت: 3۔

(3) سورہ الانبیاء آیت: 90۔

(4) سورہ البقرہ آیت: 150۔

(5) سورہ الزمر آیت: 54۔

(6) سورہ الفاتحہ آیت: 5۔

(7) سنن ترمذی، صفة القيامة والرقائق والورع (2516)، مسند احمد (1/308)۔

(8) سورہ الناس آیت: 1-2۔

استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿اس وقت کو یاد کرو، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی۔﴾ (1) سورہ الانفال آیت: 9۔

ذبح و قربانی کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿اور آپ فرمادیجیے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا (سب خالص) اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔﴾ (2) سورہ الانعام آیت: 162-163۔

اور سنت سے اس کی دلیل یہ ارشاد رسالت مآب علیہ وسلم ہے: «جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔» (3)۔

نذر کے عبادت ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿جو نذر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں، جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے۔﴾ [29] سورہ الدھر آیت: 7۔

◆ دوسری بنیادی بات: دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا

اسلام کے معنی ہیں توحید کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے آگے سپردال دینا، اس کی اطاعت و بندگی کو اختیار کرتے ہوئے اس کا مطیع و فرمانبردار ہو جانا اور شرک کی آلائشوں سے پاک رہنا۔ دین اسلام کے کے تین درجے ہیں: اسلام، ایمان، احسان۔ ساتھ ہی ہر درجے کے کچھ ارکان بھی ہیں۔

■ پہلا درجہ: اسلام

اسلام کے پانچ ارکان ہیں: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ گواہی کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود

(1) سورہ الانفال آیت: 9۔

(2) سورہ الانعام آیت: 162-163۔

(3) صحیح مسلم الأضحی (1978)، سنن النسائی الضحایا (4422)، مسند احمد (1/118)۔

حقیقی نہیں اور فرشتے اور سب اہل علم بھی (گواہی دیتے ہیں) کہ وہی حاکم ہے انصاف کے ساتھ، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، جو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ ﴿(1) سورہ آل عمران آیت: 18۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ (لا الہ الا اللہ) میں اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کی نفی ہے، جن کی عبادت ہوتی ہے۔ (لا اللہ) میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا اثبات ہے، جس کی عبادت اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک و سا جھی نہیں ہے۔ اس شہادت کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے: ﴿اور جب کہ ابراہیم (علیہ السلام) نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس ذات کے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور (ابراہیم علیہ السلام) اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے، تاکہ لوگ (شرک سے) باز آتے رہیں۔ ﴿(2) سورہ الزخرف آیت: 26-27-28۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: (آپ کہہ دیجیے کہ اے اہل کتاب! ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ، جو ہم میں اور تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ ﴿(3) سورہ آل عمران آیت: 64۔

اس بات کی گواہی کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اس کی دلیل ارشاد باری ہے: ﴿تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں، جو تمہاری جنس سے ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ ﴿(4) سورہ التوبہ آیت: 128۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینے کا مطلب ہے: آپ کے حکموں کی تعمیل کرنا، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جاننا، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دور رہنا اور آپ کے

(1) سورہ آل عمران آیت: 18۔

(2) سورہ الزخرف آیت: 26-28۔

(3) سورہ آل عمران آیت: 64۔

(4) سورہ التوبہ آیت: 128۔

بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ کی عبادت کرنا۔

نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ توحید کی تفسیر کی مشترکہ دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿انھیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے اور یکسو ہو کر، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔﴾ (1) سورہ البینہ آیت: 5۔

رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کیے گئے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقویٰ والے ہو جاؤ۔﴾ (2) (سورہ البقرہ آیت: 183)۔

بیت اللہ شریف کاجج کرنے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿اور اللہ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، وہ اس کاجج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔﴾ (3) سورہ آل عمران آیت: 97۔

■ دوسرا درجہ: ایمان

ایمان کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، جن میں اعلیٰ ترین شاخ «لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ» کا اقرار ہے اور سب سے ادنیٰ شاخ راستے سے ضرر رساں چیزوں کو ہٹانا ہے۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

اور ایمان کے چھ ارکان ہیں: اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لانا۔

ایمان کے ان چھ ارکان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے: ﴿ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں؛ بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے، جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل

(1) سورہ البینہ آیت: 5۔

(2) سورہ البقرہ آیت: 183۔

(3) سورہ آل عمران آیت: 97۔

کردہ تمام کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ ﴿(1) سورہ البقرہ آیت: 177۔

اور تقدیر پر ایمان کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔﴾ (2) سورہ القمر آیت: 49۔

■ تیسرا درجہ: احسان۔ اس کا ایک ہی رکن ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، گویا آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ تصور پیدا نہیں کر سکتے، تو اتنا خیال ضرور رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔﴾ (3) سورہ النحل آیت: 128۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: ﴿اپنا پورا بھروسہ غالب مہربان اللہ پر رکھ، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے، جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی۔ وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔﴾ (4) سورہ الشعراء آیت: 217-220۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: ﴿اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم جو کام بھی کرتے ہو، ہم کو سب کی خبر رہتی ہے، جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔﴾ (5) سورہ یونس آیت: 61۔

اور سنت سے دلیل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کہتے ہیں:

"ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص وارد ہوا۔ اس کے کپڑے بہت ہی سفید اور اس کے بال بڑے ہی کالے تھے۔ اس پر سفر کے نشانات دکھائی نہیں دے رہے

(1) سورہ البقرہ آیت: 177۔

(2) سورہ القمر آیت: 49۔

(3) سورہ النحل آیت: 128۔

(4) سورہ الشعراء آیت: 217-220۔

(5) سورہ یونس آیت: 61۔

تھے اور اسے ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دونوں گٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گٹھنوں کے ساتھ ملائے، اپنی ہتھیلیوں کو آپ کی رانوں پر رکھا اور آپ سے دریافت کیا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے! آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطیکہ اس کی طرف سفر کی طاقت ہو۔ اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص آپ سے دریافت بھی کر رہا ہے اور پھر آپ کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔

اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، آخرت کے دن اور بھلی بری تقدیر پر ایمان رکھے۔ اس نے کہا: آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس نے دریافت کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے دیکھ نہیں رہا ہے، تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے جواب دیا: قیامت کا علم مجھے تجھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا: مجھے قیامت کی علامتوں کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا اور تم یہ دیکھو کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، کنگال اور بکریوں کے چرواہے محلات کی تعمیر میں فخر و مباہات کے طور پر مقابلہ کرنے لگیں ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا سننے کے بعد وہ چل پڑا۔ کچھ دیر تک ہم وہیں رہے۔ پھر آپ نے کہا: اے عمر! کیا تم جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو بہتر معلوم ہے۔ آپ نے کہا: یہ جبریل تھے، جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔" (1)

(1) صحیح مسلم الإیمان (8)، سنن ترمذی الإیمان (2610)، سنن نسائی الإیمان وشرائعہ (4990)، سنن أبی داؤد السنۃ (4695)، سنن ابن ماجہ مقدمۃ (63)، مسند احمد (52/1)۔

◆ تیسری بنیادی بات: تمہارا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا

ہمارے نبی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہاشم کا تعلق قریش سے تھا اور قریش ایک عرب قبیلہ تھا اور عرب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہا السلام کی نسل سے ہیں۔ ان پر اور ہمارے نبی پر درود و سلام ہو۔

آپ کو تریٹھ سال کی عمر ملی۔ چالیس سال نبوت سے پہلے بسر ہوئے اور تینس سال نبی و رسول بننے کے بعد۔ آپ سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کے ذریعے نبی بنائے گئے اور سورہ مدثر کے ذریعے رسول۔ آپ کی پیدائش سرزمین مکہ میں ہوئی تھی۔ اللہ نے آپ کو شرک سے ڈرانے والا اور توحید کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا تھا۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اے کپڑا اوڑھنے والے! کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے۔ اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر۔ اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھ۔ ناپاکی کو چھوڑ دے۔ اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر۔ اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔﴾⁽¹⁾ سورہ المدثر آیت: 1-7۔

﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ کا معنی ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف بلائیں۔ "ربک فکبر" کا معنی ہے: آپ توحید کے ذریعے اللہ کی عظمت بیان کریں۔ ﴿وَشِيبَا بَكَ فَطَهَّرْ﴾ کا مفہوم ہے: آپ اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیں۔ ﴿وَالرُّجْرُ فَاهْجُرْ﴾: الرجز کا معنی اصنام (بت) اور ﴿فَاهْجُرْ﴾ (ان کو چھوڑ دے) کا مطلب ہے: آپ بتوں سے اور ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہیں نیز ان اصنام اور ان کے پرستار مشرکوں سے بیزاری و براءت کا اظہار کریں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مطابق دس سالوں تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ دس سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر (معراج) کرائی گئی اور پانچ وقتوں کی نماز فرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ ہجرت شرک کے علاقے کو چھوڑ کر توحید کے علاقے میں چلے جانے کا نام ہے۔ شرک کے علاقے سے اسلام کے علاقے کی جانب

ہجرت کرنا اس امت پر فرض ہے اور ہجرت قیامت تک باقی رہے گی۔

اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو پوچھتے ہیں، تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں، جن کا ٹھکانا و زرخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے؛ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جنہیں نہ کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سے درگزر کرے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔﴾⁽¹⁾

سورہ النساء آیت: 97-99۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: ﴿اے میرے ایمان والے بندو! میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔﴾⁽²⁾ سورہ العنکبوت آیت: 56۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے: «یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ شریف میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اللہ نے انہیں ایمان کے وصف سے متصف کر کے پکارا ہے۔»

اور حدیث سے ہجرت کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے: «ہجرت ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے اور توبہ ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج پچھم سے نکل آئے۔»⁽³⁾ جب مدینے میں آپ کو استقلال نصیب ہوا، تو اسلام کے بقیہ احکامات کا آپ کو حکم دیا گیا، جیسے زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف اور ہی عن المنکر وغیرہ دیگر شرائع اسلام۔ اس کے مطابق آپ نے دس سال گزارے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لیکن آپ کا دین باقی ہے۔ آپ نے امت کو ہر بھلائی کی راہ دکھائی ہے اور ہر برائی سے آگاہ کیا ہے۔ جس خیر کی طرف آپ نے امت کی رہنمائی کی، اس میں سرفہرست توحید

(1) سورہ النساء آیت: 97-99۔

(2) سورہ العنکبوت آیت: 56۔

(3) أبوداؤد الجہاد (2479)، أحمد (99/4)، الدراری السیر (2513)۔

ہے نیز اس میں اللہ کی پسند و رضا کے سارے کام شامل ہیں، اور جس شر اور برائی سے آپ نے ڈرایا ہے، اس میں سر فہرست شرک ہے ساتھ ہی اس میں تمام وہ کام شامل ہیں جو اللہ کو ناپسند اور ناگوار ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا اور سارے جنوں اور انسانوں پر آپ کی اطاعت کو فرض کیا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿آپ کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔﴾ (1) سورہ الاعراف آیت: 158۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے ذریعے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔

اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔﴾ سورہ المائدہ آیت: 3۔

آپ ﷺ کی وفات ہو چکی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، پھر تم سب کے سب قیامت والے دن اپنے رب کے سامنے جھکڑو گے۔﴾ (2) سورہ الزمر آیت: 30-31۔

سارے لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿اسی (زمین میں) سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر تمہیں واپس لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ تم سب کو نکال کھڑا کریں گے۔﴾ (3) سورہ طہ آیت: 55۔

اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی: ﴿اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک (خاص اہتمام سے) اگایا ہے (پیدا کیا ہے)، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور (ایک خاص طریقہ) سے پھر نکالے گا۔﴾ (4) سورہ نوح آیت: 17-18۔

اور اٹھائے جانے کے بعد ان کا حساب و کتاب ہو گا اور انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اور اللہ ہی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل

(1) سورہ الاعراف آیت: 158۔

(2) سورہ الزمر آیت: 30-31۔

(3) سورہ طہ آیت: 55۔

(4) سورہ نوح آیت: 17-18۔

کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ ﴿(1) سورہ النجم
آیت: 31۔

موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلانے والا کافر ہے۔ دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجیے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم! تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جو تم نے کیا ہے، اس کی خبر دیے جاؤ گے اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔﴾ ﴿(2) سورہ التغابن
آیت: 7۔ اللہ نے تمام رسولوں کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ہم نے انھیں رسول بنایا ہے، خوش خبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر رہ نہ جائے۔﴾ ﴿(3) سورہ النساء: 165۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام اور سب سے آخری رسول محمد علیہ وسلم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔

نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، اس کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے: ﴿یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے، جیسے کہ نوح (علیہ السلام) اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی تھی۔﴾ ﴿(4) سورہ النساء
آیت: 163۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں، جو اپنی امت کے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دیتے اور «طاغوت» کی عبادت سے منع کرتے چلے آئے ہیں۔
دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔﴾ ﴿(5)
سورہ النحل آیت: 36۔

اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں (جن و انس) پر طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے۔

امام ابن قیم رحمہ اللہ «طاغوت» کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: «طاغوت کے اندر وہ سارے

(1) سورہ النجم آیت: 31۔

(2) سورہ التغابن آیت: 7۔

(3) سورہ النساء آیت: 165۔

(4) سورہ النساء آیت: 163۔

(5) سورہ النحل آیت: 36۔

معبود، متبوع اور مطاع داخل ہیں، جن کی وجہ سے بندہ اپنی جہد سے تجاوز کر جائے۔ طاعوت بے شمار ہیں۔ لیکن سرغنہ پانچ ہیں۔ ابلیس اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ انسان جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس سے راضی ہو، ایسا شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دے، ایسا انسان جو علم غیب میں سے کسی چیز کا دعویٰ کرے اور ایسا آدمی جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی بنیاد پر فیصلہ کرے۔"

اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے: ﴿دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص طاعوت (اللہ کے سوا پوجی جانے والی تمام چیزوں) کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جو کبھی نہ ٹوٹے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔﴾۔ یہی الالہ الا اللہ کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔

حدیث پاک میں رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے: «دین کی اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے»⁽¹⁾۔ اور اللہ بہتر جانتا ہے۔

(1) الترمذی الایمان (2616)، ابن ماجہ الفتن (3973)، احمد (246/5).

- 3..... مقدمہ ناشر
- 7..... وہ باتیں، جن کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے
- 9..... حقیقت یعنی ملت ابراہیمی سے مراد محض ایک اللہ کی عبادت ہے۔
- 11..... عبادت، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے اقسام
- 13..... دوسری بنیادی بات: دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا
- 13..... پہلا درجہ: اسلام
- 15..... دوسرا درجہ: ایمان
- 16..... تیسرا درجہ: احسان۔ اس کا ایک ہی رکن ہے۔
- 18..... تیسری بنیادی بات: تمہارا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا

ثلاثة الأصول وأدلتها

تأليف: شيخ الإسلام
محمد بن عبد الوهاب

ترجمة



رواد الترجمة

جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم ٢١٢١
هاتف: +٩٦٦١١٤٤٥٤٩٠٠ فاكس: +٩٦٦١١٤٩٧٠١٢٦ ص ب: ٢٩٤٦٥ الرياض: ١١٤٥٧
P.O.BOX 29465 RIVADH 11457 TEL: +966 11 4454900 FAX: +966 11 4970126



OFFICERABWAH

